

مریض کی معلومات: LAGEVRIO

LAGEVRIO ان بالغوں کے اسپتال میں بھرتی ہونے یا موت سے روک تھام کرتی ہے جنہیں COVID-19 سے شدید بیمار ہونے کا شدید خطرہ ہو۔ اسے ان 5 دنوں کے اندر لیا جانا چاہیے جب COVID-19 کی علامات شروع ہوں۔

LAGEVRIO کیا ہے؟

LAGEVRIO (مولنوپیراویر) ایک نئی دوا ہے جسے ان بالغوں (عمر 18 سال اور زیادہ) میں ہلکے سے معتدل COVID-19 کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو:

- ▶ COVID-19 وائرل ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آیا ہو
- ▶ شدید COVID-19 کے زیادہ خطرے میں ہوں بشمول اسپتال میں بھرتی ہونا اور موت، اور جن کے لیے COVID-19 علاج کے اختیارات ناقابل رسائی ہوں یا مناسب نہ ہوں۔

LAGEVRIO ایک اینٹی وائرل دوا ہے جسے بذریعہ منہ (گولی کو نگل کر) 5 دنوں کے لیے لیا جاتا ہے۔ علامات کے حل سے قطع نظر علاج کا کورس مکمل کیا جانا چاہیے۔

یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن (FDA) نے COVID-19 عالمگیر وبا کے دوران LAGEVRIO دستیاب کرانے کے لیے ایک ایمرجنسی استعمال کا اجازت نامہ (EUA) جاری کیا ہے۔ LAGEVRIO یونائیٹڈ اسٹیٹس میں ایک FDA کی منظور شدہ دوا نہیں ہے۔

اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ کو بتائیں اگر آپ:

- ▶ حاملہ ہیں، حاملہ ہو سکتی ہیں، یا ایسے ساتھیوں کے ساتھ جنسی طور پر فعال ہیں جو حاملہ ہو سکتی ہیں۔
- ▶ کو کوئی الرجیاں ہوں
- ▶ بچے کو اپنا دودھ پلا رہی ہیں یا اپنا دودھ پلانے کا منصوبہ رکھتی ہوں
- ▶ کوئی سنگین بیماری ہو بیماری ہو
- ▶ کوئی دوائیں (نسخہ جاتی، بغیر ڈاکٹری نسخے کے ملنے والی، وٹامنز یا جڑی بوٹیوں کی مصنوعات) لے رہے ہیں



کیا LAGEVRIO ضمنی اثرات کی حامل ہے؟

- ▶ LAGEVRIO نوزائیدہ بچوں کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے (جانوروں پر کیے جانوالے مطالعات سے حاصل کردہ معلومات کی بنا پر)
- ▶ ان لوگوں میں الرجیائی ردعمل ہو سکتے ہیں جو LAGEVRIO لے رہے ہیں
- ▶ سب سے زیادہ عام ضمنی اثرات یہ ہیں:

- < اسپتال
- < متلی
- < سر چکرانا



اگر آپ کا COVID-19 ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت ہو تو علاج کے اختیارات کے بارے میں اپنے نگہداشت صحت کے فراہم کنندہ سے فوراً بات کریں۔ تمام دستیاب معالجات کے لیے ایک نسخہ درکار ہوتا ہے۔

